



کسی نبی کی روح اس وقت تک نکالی نہیں گئی، جب تک اس جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا نہیں دیا گیا اور پھر دنیا یا جنت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار نہیں دیا گیا چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا، تو آپ بہ ہوش ہو گئے دران حال کہ آپ کا سر میرے زانو پر تھا پھر جب ہوش میں آئے تو اپنی نگاہ گھر کی چھت کی طرف اٹھائی اور پھر فرمایا : "اللهم الرفیق الأعلى" یعنی اے اللہ! مجھے اعلیٰ علیین میں رہنے والوں کی رفاقت چاہیے

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے، تو فرمایا کرتے تھے : "کسی نبی کی روح اس وقت تک نکالی نہیں گئی، جب تک اس جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا نہیں دیا گیا اور پھر دنیا یا جنت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار نہیں دیا گیا" چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا، تو آپ بہ ہوش ہو گئے دران حال کہ آپ کا سر میرے زانو پر تھا پھر جب ہوش میں آئے تو اپنی نگاہ گھر کی چھت کی طرف اٹھائی اور پھر فرمایا : "اللهم الرفیق الأعلى" یعنی اے اللہ! مجھے اعلیٰ علیین میں رہنے والوں کی رفاقت چاہیے لہذا میں نے کہا: اب آپ میں نہیں چنیں گے میں سمجھ گئی کہ یہاں وہی حدیث عمل کا روپ لے رہی ہے، جو آپ نے ہمیں تندرستی کی حالت میں بتائی تھی وہ کہتی ہیں: اس طرح آپ کے منہ سے نکلنے والی آخری الفاظ تھے : "اللهم الرفیق الأعلى" [صحیح] [متفق علیہ]

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہونے سے پہلے تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے : کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوا، جب تک اللہ نے اس جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا نہیں دیا اور اس کے بعد یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ چاہے تو دنیا ہی میں رہے اور چاہے تو جنت کے اندر اپنی جگہ لے لے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: جب آپ مرض الموت کے آخری لمحوں میں تھے، تو آپ کا سر میرے زانو پر تھا اتنے میں بہ ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے، تو گھر کی چھت کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا : "اللهم الرفیق الأعلى" یعنی اے اللہ! مجھے اعلیٰ علیین میں رہنے والوں کی جماعت کا ساتھ چاہیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں : میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب اللہ نے آپ کو دنیا یا آخرت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دے دیا ہے اور میں چننے کی بجائے آپ یقیناً آخرت ہی کو چنیں گے میں سمجھ گئی کہ اسی اختیار دینے کا ذکر اس حدیث میں تھا، جو آپ تندرستی کی حالت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی آخری الفاظ تھے : "اللهم الرفیق الأعلى"



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

